

ارلی لرن (EarlyLearn Transition) کا ACS سے DOE میں منتقلی فیملی چائلڈ کنیر

ہمارا تصور: فیملی چائلڈ کنیر (family child care) کی خدمات کو سراہتے ہوئے، محکمہ تعلیم، فیملی چائلڈ کنیر فراہم کنندہ کو نیویارک شہر کے ابتدائی نگہداشت میں قابل احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ محکمہ تعلیم چاہتی ہے کہ موجودہ فیملی چائلڈ کنیر کے پروگراموں کی استطاعت کو پیدائش-تا-چار سال تک بڑھانے میں مدد کرے جس سے مستقل اور باہم تعلقات، ابتدائی تعلیمی صلاحیتوں کی مضبوطی، استقامت بڑھانے اور مستقبل کی تدریس کی بنیاد ڈالنا ہے۔

ارلی لرن (EarlyLearn) کا ACS سے DOE میں منتقلی کیا ہے؟

- ارلی لرن پروگرام جو پیدائش-تا-پانچ سالہ بچوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، اب محکمہ تعلیم کے زیر انتظام آ جائیں گے تاکہ نیویارک شہر میں ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کا ایک مضبوط نظام بنایا جا سکے۔
- اس منتقلی میں ارلی لرن سینٹر پر مبنی پروگرام اور فیملی چائلڈ کنیر کے نیٹ ورکس اور ان سے وابستہ فراہم کنندہ گان شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم فیملی چائلڈ کنیر کے نیٹ ورکس کا ڈھانچہ برقرار رکھے گی۔
- ارلی لرن کے تمام معاہدے جولائی 2019 تک محکمہ تعلیم کے نام تبدیل ہو جانا شیڈیول ہے۔ معاہدے کی وہی شرائط برقرار رہیں گی اور یہ معاہدے 30 جون، 2020 کو منسوخ ہو جائیں گے۔

2019 کے بعد کیا ہو گا؟

- محکمہ تعلیم جولائی یا ستمبر 2020 سے شروع، پیدائش-تا-پانچ سال کی تجاویز کی (RFPs) کے لیے تین الگ الگ درخواستیں کے ذریعے معاہدے کرے گا۔
 - پیدائش-تا-پانچ سال خدمات RFP: اسکول دن / سال اور توسیعی دن / سال (مرکز پر مبنی پروگرام اور گروپ فیملی ڈے کنیرز)؛
 - ہیڈ اسٹارٹ / ارلی ہیڈ اسٹارٹ خدمات RFP (مرکز پر مبنی پروگرام)؛ اور
 - فیملی چائلڈ کنیر نیٹ ورکس RFP (نیٹ ورکس جو گروپ فیملی ڈے کنیر اور فیملی کنیر فراہم کنندہ گان سے وابستہ ہیں)۔
- پیدائش-تا-پانچ خدمات RFP اور ہیڈ اسٹارٹ خدمات RFP مارچ 2019 میں جاری کی گئیں تھی اور HHS Accelerator کے ذریعے آن لائن دستیاب ہیں۔ محکمہ تعلیم فیملی چائلڈ کنیر نیٹ ورکس کی RFP کو 2019 کے موسم بہار میں جاری کرنے کی توقع کر رہا ہے۔

کون فیملی چائلڈ کنیر نیٹ ورکس میں درخواست دیتا ہے؟

- فیملی چائلڈ کنیر نیٹ ورکس فراہم کنندہ گان جو کسی نیٹ ورک سے وابستہ ہیں انہیں اس RFP میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
- شہر سے ساتھ مندرجہ ذیل معاہدوں کو جاری رکھنے کے لیے فیملی چائلڈ کنیر نیٹ ورکس کو چائلڈ کنیر نیٹ ورکس RFP کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے۔
 - سب کے لیے 3-K
 - چائلڈ کنیر (توسیعی دن / سال) میں نوزائید، طفل، اور 3 سالہ بچوں کے
- FCC خدمات فراہم کنندہ گان کو خالی جگہوں کے لیے درخواست میں مدد لینے اپنے نیٹ ورکس سے بات کرنا چاہیے۔

3-K فیملی ڈے کنیر فراہم کنندہ گان کے لیے کیا مطلوبات ہیں؟

- آپ کو ایک FCC کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔
- چاہے موقع پر فراہم کنندہ گان جیسا کہ لائسنس / رجسٹریشن پر ظاہر ہو اور / یا معاون کے پاس CDA کے اسناد یا اس سے زیادہ کا ہونا لازمی ہے۔

اگر میں ایک فیملی ڈے کنیر فراہم کنندہ (GFDC) ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟

- GFDCs کسی نیٹ ورک سے وابستہ ہو کر یا محکمہ تعلیم کو براہ راست معاہدے کے لیے درخواست دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ ایک نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں:
 - آپ کو RFP کے لیے تجویز جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔



- آپ ملی جلی عمروں (نوزائید، طفل، اور 3 سالہ بچے) کی خدمات دے سکتے ہیں
- آپ مندرجہ ذیل خدمات فراہم کر سکتے ہیں:
 - سب کے لیے 3K CDA (سند مطلوب ہے)
 - چائلڈ کنیر (توسیعی دن / سال) نوزائید، طفل، اور 3 سالہ بچوں کی خدمات
- آپ کو ایک مستند استاد کی ضرورت نہیں ہے۔

- اگر آپ DOE سے براہ راست معاہدے کی درخواست دینا چاہتے ہیں:
 - آپ کو پیدائش سے پانچ کی خدمات کی RFP کے لیے ایک تجویز 5 جون 2019 تک جمع کرانی ہو گی۔
 - آپ صرف ایک خاص عمر کے لیے خدمات دے سکتے ہیں: 3 - سالہ یا 4 - سالہ بچے
 - آپ مندرجہ ذیل خدمات فراہم کر سکتے ہیں:
 - 3 - سالہ یا 4 - سالہ بچوں کو اسکول دن اور سال کی خدمات
 - 3 - سالہ یا 4 - سالہ بچوں کو توسیعی دن اور سالانہ خدمات
 - آپ کو ایک مستند استاد کی ضرورت ہے۔
 - آپ کو ایک مرکز پر مبنی پروگرام گردانا جائے گا اور پالیسی دستی کتابچہ برائے سب کے لیے 3K اور پری-K کی تمام خدمات کے لیے دیے ہوئے مطلوبات کو لازمی پورا کرنا ہو گا۔

- اگر میں ایک نیٹ ورک سے ساتھ وابستہ ہوں اور اسے DOE کا معاہدہ نہیں ملتا یا ان قسم کی خدمات کا کام نہیں ملتا جو میں فراہم کر سکتا ہوں تو کیا ہو گا؟
 - آپ ان دوسرے نیٹ ورک کے پاس جا کر کام لینے کی کوشش کر سکتے ہیں جنہیں وہ کام مل گئے ہیں جن میں آپ خدمات دینا چاہتے ہیں۔
 - محکمہ تعلیم کی فیملی چائلڈ کنیر امدادی ٹیم آپ کو دوسرے نیٹ ورکس سے رابطہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

- اگر ایک تنظیم اپنے نیٹ ورک سے وابستگی کے لیے یا میرے لیے ایک RFP تجویز جمع کرانے کے لیے رقم کا مطالبہ کرتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
 - نیٹ ورکس کو آپ سے ان سے وابستگی کے لیے رقم نہیں مانگنی چاہیے۔
 - تنظیمیں آپ کو گارنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتیں کہ رقم کے بدلے آپ کو نشستیں دستیاب ہو جائیں گی
 - محکمہ تعلیم فیملی چائلڈ کنیر امدادی ٹیم سے اپنے انتخابات سمجھنے میں مدد کے لیے رابطہ کریں

میں RFPs کے بارے میں کہاں سے مزید جان سکتا ہوں؟

- دستیاب RFPs کو تلاش کرنے کے اہم ذرائع کی معلومات کے لیے ہماری schools.nyc.gov/provideearlychildhood پر جائیں . سوالات کے لیے PreKRFP@schools.nyc.gov پر ای میل کریں۔
- تمام درخواستیں HHS Accelerator کے ذریعے آن لائن جمع کرانی لازمی ہیں۔ HHS کے بارے میں مزید معلومات schools.nyc.gov/provideearlychildhood سے مل سکتی ہیں۔

محکمہ تعلیم کیا مدد فراہم کر سکتا ہے؟

- FCC پروگراموں کو FCC نیٹ ورکس اور محکمہ تعلیم کے عملے سے آگے بڑھنے کے لیے مدد ملے گی: (1) بچوں سے باہمی تعلقات اور مثبت تجربہ حاصل ہو گا؛ (2) ایک عمر کی ترتیب میں رہتے ہوئے کھیل پر مبنی اور تحقیقی نصاب؛ (3) ابتدائی عمروں میں استقامت کو تقویت دینے کے لیے مثبت عناصر

نیٹ ورکس موصول کریں گے:

- نیٹ ورک قائدین، عملے اور فراہمکنندہ گان سے موقع پر ملاقاتیں اور انفرادی پیشہ ور تدریسی اجلاس۔
- بین المذاہم تدریسی ذرائع اور اہل خانہ کی شمولیت سے معاونت
- انتظامی مدد

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، برائے مہربانی محکمہ تعلیم فیملی چائلڈ کنیر سپورٹ ٹیم سے fccsupportteam@schools.nyc.gov پر رابطہ کیجیے۔

